



اللہ کے رسول نے صدقہ فطر مسلمان غلام اور آزاد، مرد اور عورت، چھوٹے اور بڑے (سب پر) ایک صاع کھجور یا ایک صاع جو فرض قرار دیا ہے اور حکم دیا ہے کہ اسے نماز عید کے لیے لوگوں کے نکلنے سے پہلے پہلے ادا کر دیا جائے ہے

عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں: اللہ کے رسول نے صدقہ فطر مسلمان غلام اور آزاد، مرد اور عورت، چھوٹے اور بڑے (سب پر) ایک صاع کھجور یا ایک صاع جو فرض قرار دیا ہے اور حکم دیا ہے کہ اسے نماز عید کے لیے لوگوں کے نکلنے سے پہلے پہلے ادا کر دیا جائے ہے

[صحیح] [متفق علیہ]

اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے بعد زکاۃ الفطر واجب کی ہے، جس کی مقدار ایک صاع یعنی چار مدد میں مدد دراصل ایک متوسط انسان کے لپ بھر کو کہتے ہیں زکاۃ الفطر ہر ایسے مسلمان پر پر واجب ہے، جس کے پاس ایک دن ایک رات کے کھانے سے زائد چیز موجود ہو خواہ وہ آزاد ہے وہ غلام، مرد ہے وہ عورت اور چھوٹا ہے وہ بڑا انسان زکاۃ الفطر اپنی اور اپنے زیر کفالت لوگوں کی جانب سے ادا کرے گا آپ نے ساتھ میں یہ حکم دیا کہ فطرہ لوگوں کے نماز کے لیے نکلنے سے پہلے پہلے ادا کر دیا جائے ہے

<https://sunnah.global/hadeeth/ur/show/4520>



النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

